

(سورہ واقعہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی مگر دو آیتیں (۸۱ اور ۸۲) مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ اس میں (۹۶) آیتیں اور (۳) رکوع ہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے (۳۶) نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے (۵۶) نمبر پر ہے اور سورہ طہ کے بعد نازل ہوئی ہے)

اس میں (۱۷۰۳)

حروف ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اس میں (۳۷۸)

کلمات ہیں

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۱ لَيْسَ

جب واقع ہوئی واقع ہونے والی ۱ اُس کے

لَوْقَعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۲ خَافِضَةٌ

واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ۲ وہ پست کرنے والی،

رَافِعَةٌ ۳ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۴

بلند کرنے والی ہوگی ۳ جب کہ زمین ہلا ڈالی جائے گی ۴

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۵ فَكَانَتْ

اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے ۵ پھر وہ

هَبَاءٌ مُّنبِتًا ٦ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا

پراگندہ غبار بن جائیں گے ٦ اور تم لوگ تین قسم

ثَلَاثَةً ٧ فَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ٨ مَا

کے ہو جاؤ گے ٧ پھر دائیں والے، پس

أَصْحَابُ الْيَمِينِ ٨ وَأَصْحَابُ

کیا خوب ہیں دائیں والے ٨ اور بائیں

الْبَشْعَةِ ٩ مَا أَصْحَابُ الْبَشْعَةِ ٩

والے، کیسے بُرے لوگ ہیں بائیں والے ٩

وَالسُّبِقُونَ السُّبِقُونَ ١٠ أُولَئِكَ

اور آگے والے تو آگے والے ہی ہیں ١٠ وہ

الْمُقَرَّبُونَ ١١ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ١٢

مُقَرَّبَ لوگ ہیں ١١ نعمت کے باغوں میں ١٢

ثَلَاثَةٌ مِّنَ الْأُولَىٰ ١٣ وَقَلِيلٌ مِّنَ

اُن کی بڑی تعداد اگلوں میں سے ہوگی ١٣ اور تھوڑے

الْآخِرِينَ ۱۳ عَلَى سُرْرٍ مَّوضُونَةٍ ۱۵

پچھلوں میں سے ہوں گے ۱۳ جڑاؤ تختوں پر ۱۵

مَتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ ۱۶ يَطُوفُ

تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے ۱۶ پھر رہے

عَلَيْهِمْ ۱۴ وَوَلَدَانُ مُخَلَّدُونَ ۱۴

ہوں گے ان کے پاس لڑکے ہمیشہ رہنے والے ۱۴

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ ۱۵ وَكَاسٍ مِّنْ

پیالے اور جگ لیے ہوئے اور جام صاف

مَعِينٍ ۱۸ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا

شراب کا ۱۸ اُس سے نہ درد سر ہوگا

وَلَا يُنْزِفُونَ ۱۹ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا

اور نہ عقل میں فتور آئے گا ۱۹ اور میوے کہ جو چاہیں

يَتَخَيَّرُونَ ۲۰ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا

چن لیں ۲۰ اور پرندوں کا گوشت جو

يَشْتَهُونَ ②١ وَحُورٌ عِينٌ ②٢

اُن کو مرغوب ہو ②١ اور بڑی آنکھوں والی حوریں ②٢

كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ ②٣ جَزَاءً

جیسے موتی کے دانے اپنے غلاف کے اندر ②٣ بدلہ

بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ②٤ لَا يَسْعَوْنَ

اُن کاموں کا جو وہ کرتے تھے ②٤ اُس میں وہ کوئی لغو

فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْتِيَا ②٥ إِلَّا قِيْلًا

اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے ②٥ مگر صرف

سَلَامًا سَلَامًا ②٦ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ ②٧

سلام سلام کا بول ②٦ اور داہنے والے ،

مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ ②٨ فِي سِدْرٍ

کیا خوب ہیں داہنے والے ②٨ پیری کے درختوں میں

مَخْضُودٍ ②٩ وَطَلْحٍ مَّنْضُودٍ ③٠

جن میں کاٹا نہیں ②٩ اور کیلے تہہ بہ تہہ ③٠

وَّظِلِّ مَّدُودٍ^{لا} ٣٠ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ^{لا} ٣١

اور پھیلے ہوئے سائے ٣٠ اور بہتا ہوا پانی ٣١

وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ^{لا} ٣٢ لَا مَقْطُوعَةٍ

اور کثرت سے میوے ٣٢ جو نہ ختم ہوں گے

وَلَا مَمْنُوعَةٍ^{لا} ٣٣ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ^ط ٣٤

اور نہ کوئی روک ٹوک ہوگی ٣٣ اور اونچے بچھونے ٣٤

إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنِشَاءً^{لا} ٣٥ فَجَعَلْنَهُنَّ

ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے ٣٥ پھر ان کو

أَبْكَارًا^{لا} ٣٦ عُرُبًا أَتْرَابًا^{لا} ٣٧ لِأَصْحَابِ

کنواری رکھا ہے ٣٦ دل رُبا اور ہم عمر ٣٧ داہنے والوں

الْيَبِينِ^ط ٣٨ ثَلَاثَةً^م مِّنَ الْأَوَّلِينَ^{لا} ٣٩

کے لیے ٣٨ اگلوں میں سے ایک بڑا گروہ ہوگا ٣٩

وَتَلَاثَةً^م مِّنَ الْآخِرِينَ^ط ٤٠ وَأَصْحَابِ

اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ٤٠ اور بائیں

الشِّبَالِ ۗ مَا أَصْحَبُ الشِّبَالِ ۖ ط

والے ، کیسے بُرے ہیں بائیں والے (۴۱)

فِي سُبُومٍ وَحَبِيمٍ ۖ وَظِلٍّ مِّنْ

آگ میں اور کھولتے ہوئے پانی میں (۴۲) اور سیاہ دھویں

يَحْبُومٍ ۖ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ۖ

کے سائے میں (۴۳) نہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ عزت کا (۴۴)

إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ ۖ

یہ لوگ اس سے پہلے خوش حال تھے (۴۵)

وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ

اور بھاری گناہ پر اصرار کرتے

الْعَظِيمِ ۖ وَكَانُوا يَقُولُونَ ۗ إِذَا

رہے (۴۶) اور وہ کہتے تھے : کیا جب ہم مر جائیں گے

مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۖ إِنَّا

اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم

لَسَبْعُونَ ۲۷ أَوْ أَبَاؤُنَا الْأَوْلُونَ ۲۸

پھر اٹھائے جائیں گے ۲۷ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی ۲۸

قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۲۹

کہہ دیجیے کہ اگلے اور پچھلے سب ۲۹

لَيَجْعَلُنَّ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِ

جمع کیے جائیں گے ، ایک مقرر دن کے

مَعْلُومٍ ۵۰ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ

وقت پر ۵۰ پھر تم لوگ اے بہکے ہوئے اور

الْمُكَذِّبُونَ ۵۱ لَا تَكُونُ مِنْ شَجَرٍ

جھٹلانے والو ۵۱ زقوم کے درخت میں سے

مِّنْ زَقُومٍ ۵۲ فَبَالِغُونَ مِنْهَا

کھاؤ گے ۵۲ پھر اُس سے اپنا پیٹ

الْبُطُونَ ۵۳ فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ

بھرو گے ۵۳ پھر اُس پر کھولتا ہوا

الْحَبِيمِ ۝۵۴ ج فَشَرِبُونَ شُرْبَ

پانی پیو گے ۝۵۴ پھر پیاسے اونٹوں کی طرح

الْهِيمِ ۝۵۵ ط هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ

پیو گے ۝۵۵ یہ اُن کی مہمانی ہوگی انصاف کے

الَّذِينَ ۝۵۶ ط نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ

دن ۝۵۶ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ،

فَلَوْلَا تَصَدِّقُونَ ۝۵۷ اَفَرَأَيْتُمْ مَا

پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے ۝۵۷ کیا تم نے غور کیا اُس چیز پر

تُنُونَ ۝۵۸ ط ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهَا أَمْ

جو تم ٹپکاتے ہو ۝۵۸ کیا تم اُس کو بناتے ہو یا

نَحْنُ الْخَالِقُونَ ۝۵۹ نَحْنُ قَدَرْنَا

ہم ہیں بنانے والے ۝۵۹ ہم نے تمہارے درمیان

بَيْنَكُمْ الْمَوْتِ وَمَا نَحْنُ

موت مُقَدَّر کی ہے اور ہم

بِسُبُوقِينَ ۙ ﴿٢٠﴾ عَلَىٰ أَنْ يُبَدَّلَ

اس سے عاجز نہیں ﴿٢٠﴾ کہ تمہاری جگہ تمہارے

أَمْثَالِكُمْ وَنُنشِئُكُمْ فِي مَا

جیسے پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت میں بنا دیں جن کو

لَا تَعْلَمُونَ ۙ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ

تم نہیں جانتے ﴿٢١﴾ اور تم پہلی

النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ۙ ﴿٢٢﴾

پیدائش کو جانتے ہو پھر کیوں سبق نہیں لیتے ﴿٢٢﴾

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ۙ ﴿٢٣﴾ ؕ

کیا تم نے غور کیا اُس چیز پر جو تم بوتے ہو ﴿٢٣﴾ کیا تم

تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزُّرْعُونَ ۙ ﴿٢٤﴾

اُس کو اُگاتے ہو یا ہم ہیں اُگانے والے ﴿٢٤﴾

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ

اگر ہم چاہیں تو اُس کو ریزہ ریزہ کر دیں پھر تم

تَفَكَّهُونَ ②٥ ۝ إِنَّا لَمُبْعَمُونَ ②٦

باتیں بناتے رہ جاؤ ②٥ ہم تو تاوان میں پڑ گئے ②٦

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ②٧ ۝ أَفَرَأَيْتُمْ

بلکہ ہم بالکل محروم ہو گئے ②٧ کیا تم نے

الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ②٨ ۝ ءَأَنْتُمْ

غور کیا اُس پانی پر جو تم پیتے ہو ②٨ کیا تم نے

أَنْزَلْنَاهُ مِنَ الْمُنْزِلِ أَمْ نَحْنُ

اُس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم ہیں اتارنے

الْمُنْزِلُونَ ②٩ ۝ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ

والے ②٩ اگر ہم چاہیں تو اُس کو

أُجَاجًا فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ ④٠

سخت کھاری بنا دیں ، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے ④٠

أَفَرَأَيْتُمْ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ④١

کیا تم نے غور کیا اُس آگ پر جس کو تم جلاتے ہو ④١

ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ

کیا تم نے پیدا کیا اُس کے درخت کو یا ہم ہیں

نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿٤٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا

اُس کے پیدا کرنے والے ﴿٤٢﴾ ہم نے اُس کو

تَذَكِيرَةً وَمَتَاعًا لِلْبُقُوعِينَ ﴿٤٣﴾

یاد دہانی بنایا ہے اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز ﴿٤٣﴾

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٤٤﴾

پس آپ اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے ﴿٤٤﴾

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ ﴿٤٥﴾

پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے مواقع کی ﴿٤٥﴾

وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لِّوَتَّعِلْبُونَ عَظِيمٌ ﴿٤٦﴾

اور اگر تم غور کرو تو یہ بہت بڑی قسم ہے ﴿٤٦﴾

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٤٧﴾ فِي كِتَابٍ

بے شک یہ ایک عزت والا قرآن ہے ﴿٤٧﴾ ایک محفوظ

مَكُونٍ ۚ (۷۸) لَا يَسْهَىٰ إِلَّا

کتاب میں (۷۸) اُس کو وہی چھوتے ہیں

الْبَطَّارُونَ ۚ (۷۹) تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ

جو پاک بنائے گئے ہیں (۷۹) اُتارا ہوا ہے پروردگار عالم

الْعَلِيِّنَ ۚ (۸۰) أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ

کی طرف سے (۸۰) پھر کیا تم اُس کلام کے ساتھ

أَنْتُمْ مُّذْهِنُونَ ۚ (۸۱) وَتَجْعَلُونَ

بے توجہی برتتے ہو (۸۱) اور تم اپنا حصہ

رِزْقِكُمْ أَنْتُمْ تَكْذِبُونَ ۚ (۸۲)

یہی لیتے ہو کہ تم اُس کو جھٹلاتے ہو (۸۲)

فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ۚ (۸۳)

پھر کیوں نہیں، جب کہ جان حلق میں پہنچتی ہے (۸۳)

وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ۚ (۸۴)

اور تم اُس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو (۸۴)

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ

اور ہم تم سے زیادہ اُس شخص کے قریب ہوتے ہیں مگر

لَا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ

تم نہیں دیکھتے ﴿٨٥﴾ پھر کیوں نہیں، اگر تم کسی کے حکم

مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ

میں نہیں ہو ﴿٨٦﴾ تو تم اُس جان کو کیوں نہیں لوٹا لاتے،

صَادِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ

اگر تم سچے ہو ﴿٨٧﴾ پس اگر وہ مُقَرَّبِينَ

الْبُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرُوحٌ وَرِيحَانٌ ۗ

میں سے ہو ﴿٨٨﴾ تو راحت ہے اور عمدہ روزی ہے

وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ

اور نعمت کا باغ ہے ﴿٨٩﴾ اور اگر وہ اصحابِ یمن

أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلِّمْ لَكَ مِنْ

میں سے ہو ﴿٩٠﴾ تو تمہارے لیے سلامتی،

أَصْحَابِ الْيَمِينِ ⑨١ وَأَمَّا إِنْ كَانَ

تو اصحاب یمن میں سے ہے ⑨١ اور اگر وہ جھٹلانے والے

مِنَ الْكٰذِبِينَ الضَّالِّينَ ⑨٢ فَذُلُّوا

گمراہ لوگوں میں سے ہو ⑨٢ تو گرم پانی کی

مِّنْ حَيْمٍ ⑨٣ وَتَصْلِيَةً جَحِيمٍ ⑨٤

مہمانی ہے ⑨٣ اور جہنم میں داخل ہونا ⑨٤

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ⑨٥ فَسَبِّحْ

بے شک یہ قطعی حق ہے ⑨٥ پس آپ اپنے

بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ⑨٦

عظیم رب کے نام کی تسبیح کیجیے ⑨٦